



در حقیقت " تکفیری " کون کہلاتا ہے؟؟



درحقیقت " تکفیری " کون کہلاتا ہے؟؟

سوال :

آج کل عموماً بہت سے گروہ ایک دوسرے کو تکفیری قرار دیتے نظر آتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ "تکفیری" کس شخص کو کہاجاتا ہے اور اصل "تکفیری لوگ" کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہاں تو بظاہر محض فکری اختلافات کی بناء پر الزام تراشیاں جاری ہیں اور تکفیری و خارجی کے اتہامات کی بھرمار ہے؟

الجواب بعون الوهاب

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله اما بعد !

ہر مسلمان جب بھی وہ تلاوت قرآن کا سر انجام دیتا ہے یا احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ کسی نا کسی کی تکفیر ضرور کرتا ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں بات سے اعمال ایسے ہیں جن کو کفر کہا گیا ہے مگر کسی عمل کے کفریہ ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسکا ہر ہر مرتکب کافر و مرتد قرار دیا جائے گا کیونکہ قرآن و احادیث کے مجموعہ اور فہم سلف سے یہ بات عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہایت قبیح کبیرہ گناہوں سے مسلمانوں کو رازہ اور تنبیہ کرنے کے مقصد سے انہیں بھی کفر قرار دیا ہے حالانکہ انکا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج نہ قرار دیا جاتا اور نہ ہی ایسا سمجھا جاتا ہے

تو جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کفر کی دو اقسام ، قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین سے ملتی ہیں ، وہ درج ذیل ہیں :

1- کفر اصغر (کبیرہ گناہ)

2- کفر اکبر (ارتداد)

اس سے ایک بات تو واضح ہوگئی:

ہر ایسے کام کے جسے قرآن احادیث میں کفر کہا گیا ہے ، کا مرتکب لازمی نہیں دین اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ عمل کفر اصغر یعنی کبیرہ گناہ کے زمرہ میں آتا ہو

◀ اگر کوئی مسلمان عورت یا مرد کسی ایسے عمل میں مبتلاء ہوتا ہے کہ جو ارتداد کے زمرہ میں آتا ہو تو اس مسلمان کی تکفیر کرنے والا شخص تکفیری ہرگز نہیں بن جاتا یعنی محض کسی کو کافر قرار دینے سے کوئی تکفیری نہیں بن جاتا جب ہم کسی کے لیے لفظ "تکفیری" یا "فتنہء تکفیر" استعمال کرتے ہیں تو اس وقت تکفیر مطلق کی بات عموماً نہیں ہوتی

بلکہ یہ الفاظ تکفیر معین کے حوالہ سے بولے جاتے ہیں یا پھر کبھی کبھار تکفیر مطلق سے متعلق بھی ہوتے ہیں عموماً ان سے مراد تکفیر معین ہی ہوتی ہے

پس ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص کی معین تکفیر کرے جبکہ اس نے کوئی کفریہ کام بھی نہ کیا ہو یا اگر کفریہ کام کیا ہو تو تکفیر معین کے اصول و قوانین کو ملحوظ رکھے بغیر اور انہیں اپلائی کیے بغیر وہ اس معین شخص کو کافر و مرتد قرار دینا شروع کر دے تو ایسے تکفیر کرنے والے کو تکفیری یا فتنہاء تکفیر میں مبتلاء قرار دیا جاتا ہے یعنی اگر کسی شخص نے تکفیر المعین کے اصول ضوابط جو کہ قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت ہیں پر پرکھے بغیر کسی مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا تو ایسا شخص تکفیری پکارا جائے گا ، کیونکہ اس نے ایک مسلمان کی ناحق تکفیر کی ہے اور شرعی قواعد و ضوابط سے انحراف کیا ہے

اگر کوئی شخص کسی صریح کفریہ عمل میں ملوث کسی مسلمان پر تکفیر معین کے اصول و قوانین کا اطلاق کرے اسکی معین تکفیر کرتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص تکفیری نہیں کہلائے گا مگر یاد رہے یہ متبحر فی العلم علماء امت کا کام ہے بلکہ علماء کے گروہ کا کام ہے اور عوام الناس، دینی مدارس کے طلباء، مساجد کے خطباء و ائمہ کو بھی اس مسئلے میں ایسے علماء کے پیچھا چلنا ہے جو تکفیر کرنے کے اہل ہیں اور تکفیر کے اصول ضوابط کا پورا علم اور ادراک رکھتے ہیں

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب